

نہ کہہ کر مانتے رہے تو میں نے انہیں قتل کر دیے۔
اس کے بعد وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔

علیؑ کی طرف سے ان کا جواب تھا کہ میں نے انہیں قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔

علیؑ کی طرف سے ان کا جواب تھا کہ میں نے انہیں قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔

عمرو اپنے بھائی کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھا کہ علیؑ نے ان کے پیچھے ہٹ کر آکر کھڑے ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا تھا۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔

میں نے انہیں قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔

عمرو بن عبدالودود نے کہا کہ میں نے انہیں قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔

"میں نے انہیں قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔
اور وہ لوگ اس کو قتل کرنے سے باز آئے۔"

(تیسرا)